

## 3259-کیا یہ ممکن ہے کہ دجال یا مسیح علیہ السلام کا خروج ہمارے زمانے میں ہو

### سوال

میں نے بہت زیادہ مددی اور دجال اور مسیح علیہ السلام کے ظہور کے بارہ میں علمات پڑھی ہیں اور وہ علمتیں بھی جن کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے تو مجھے ان علمتوں نے دہشت زدہ کر دیا ہے کہ وہ حقیقی طور پر آچکی ہیں یا پھر اب ثابت ہوچکی ہیں

اور فی الواقع بہت زیادہ علمتیں مثلاً وقت کی قربت اور شراب پینے کی کثرت اور زنا کا زیادہ ہونا اور موسیقی کا پھینا وغیرہ موجود ہیں۔

تو میرا یہ سوال ہے کہ :

تو آپ کا کیا نیا ہے کہ مذکورہ تین نشانیوں مددی، دجال، عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور بہت زیادہ قریب ہے اور وہ ہماری زندگی میں ہو گا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزاۓ عطا فرمائے۔

### پسندیدہ جواب

تین علمتوں کا ظہور مددی اور دجال اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول یقینی ہے اور ان کا وقوع لازمی ہو گا جیسا کہ اس پر صحیح دلائل موجود ہیں۔

اور ان تین علمتوں کا ظہور آپس میں قریب ہے یعنی ایک دوسرے سے بہت قریب ہوں گی کیونکہ جیسا کہ صحیح احادیث میں یہ بات ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مددی کے پیچے نماز ادا کریں گے اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔

لیکن ان کے وقوع کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ زیادہ جانتا ہے اور رہی یہ بات کہ ان کا وقوع قریب ہے تو شرعاً دلائل اور نصوص سے یہ ثابت ہے کہ ان کا وقوع قریب ہے لیکن یہ کہنا کہ ہماری زندگی میں ان کا وقوع ہو گا یہ کہ ہمارے زندگی کے بعد تو یہ علم غیب میں سے ہے جس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔

تو مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ عمومی فتنوں سے اور خاص کر دجال کے فتنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا، اور یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اعلامیہ اور خفیہ طریقے سے دعا مانگتا رہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیاوی اور انزوی زندگی میں صحیح قول پر ثابت قدم رکھے۔

واللہ اعلم۔